

اسم المكان و الزمان

Noun of Place and Noun of Time

آج ہم مشتق اسم (اسم المكان و اسم الزمان) کو پڑھیں گے۔

Today we are going to deal with the Ism Mushtaqat (derived nouns), Ism Zamaan (Noun of Time) and Ism Makaan (Noun of Place).

بعض اسم کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو بتاتے ہیں اُن کو اسم مکان و زمان کہتے ہیں۔

Some nouns denote the place or time of occurrence of the action. They are called Ism Makaan and Ism Zamaan respectively.

1- اسم المكان: جو اسم کسی کام کے واقع ہونے کی جگہ بتائے اُسے عربی میں "اسم المكان" کہتے ہیں۔

Ism AlMakaan: The noun denoting place of occurrence of an action is Ism Makaan (adverb of place).

2- اسم الزمان: جو اسم کسی کام کے واقع ہونے کا وقت بتائے اُسے عربی میں "اسم الزمان" کہتے ہیں۔

Ism AlZamaan: The noun denoting time of occurrence of an action is Ism Zamaan (adverb of place). (In Urdu notes Ism Makaan is repeated and Ism Zamaan is missing.)

اسماء زمان و مکان میں اس مصدر کے معنی پائے جاتے ہیں جس سے وہ مشتق ہوتا ہے۔

Asmau Zamaan wa Makaan have the meaning of the Masdar they are derived from.

اوزن: ثلاثی مجرد سے اسماء زمان و مکان بنانے کے لیے دو وزن استعمال ہوتے ہیں۔

Asmau Zamaan wa Makaan have the meaning of the Masdar they are derived from.

مُفْعِلٌ - **مَفْعُولٌ**

معتل فعل او سالم اسم المكان و اسم الزمان اوزان

Week and sound verb Noun of Place, Noun of Time patterns and Adverb

مُفْعِل: مُقتَل (قتل کی جگہ: Slaughterhouse) مَذْبُح (ذبح کی جگہ: Mortal spot)

مُكْتَب (لکھنے کی جگہ: Restaurant) مَطْعُم (ہوٹل: Writing place)

مُخْرُج (نکلنے کی جگہ: Way out) مُلْعَب (کھیلنے کی جگہ: Playground)

مَشْرُب (پینے کی جگہ: Entrance) مَدْخُول (داخل ہونے کی جگہ: Drinking place).

مَطْبُخ (بادرپی خانہ کی جگہ: Kitchen..)

فعل ناقص:

مُجْرِي (دوڑنے کی جگہ: Entertainment Place) مُلْهَى تفریح گاہ (تفریح کرنے کی جگہ: Conference room.)

مُفْعِل

مُجْرِي (سورج نکلنے کی جگہ یا وقت: Origin) مُرْجِع (پلٹنے کی جگہ: Time or Place of rising.)

مُغْرِب (غروب ہونے کی جگہ یا وقت: car Park) مُوقَف (رکنے کی جگہ: Place or time of setting.)

مُوْضِع (رکھنے کی جگہ: Place) مُنْتَل (اترنے کی جگہ: Place of getting down.)

مُفْعِل اور مُفْعِل پر آنے والے کچھ اسماء کے آخر میں (ة) مُفْعَلَة یا مُفْعِلَة آتی ہے۔

But some Asma on the scale of مُفْعِل and مُفْعَل also take (ة). It means they are on the scale of مُفْعَل or مُفْعَلَة.

مُفْعَلَة

مُفْعِلَة

مُفْعَلَة: مَدْرَسَةٌ (بُرْضَنَةٍ كَجَّهُ) (سَكُولٌ) (كَحْتِيٌّ) مَزْرَعَةٌ (farm)

مَأْسَدَةٌ (وَهُجَّهُ جَهَّاً شَيْرَ رَهْتَهُ هُوَ) مَكْتُبَةٌ (لَا بَرِيرِيٌّ) (den of a lion)

-مُفْعَلَة: مَتَرْلَةٌ (بِيَظْنَهُ كَجَّهُ) (place or position)

اسم المكان واسم الزمان اور ظرف میں کیا فرق ہے؟

Difference between Noun of Place, Noun of time and Adverb.

اسم المكان واسم الزمان

1: اسم المكان واسم الزمان کے مخصوص وزن ہوتے ہیں۔

Asmau Zamaan wa Makaan, have patterns.

2: اسماء زمان اور مکان مشتق ہوتے ہیں۔

Asmau Zamaan wa Makaan, though derived nouns.

3: اسماء زمان میں کام کرنے یا ہونے کا وقت اور اور مکان میں کام کرنے یا ہونے کی جگہ کا مفہوم ضرور شامل ہوتا ہے

Ism Zamman wa Makaan contain the meaning of an action.

4: اسم مکان اور زمان رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں آ سکتے ہیں۔

Ism Makaan and Ism Zamaan can occur in all the three cases, Rafa' (nominative), Nasab (accusative), Jer (genitive).

5: جملے میں کوئی بھی پوزیشن لے سکتے ہیں۔

Ism Makaan and Ism Zamaan when used in a sentence can take any position.

ظرف

1: ظروف کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔

Zarf do not have patterns.

2: ظروف مشتق نہیں ہوتے۔

Zarf not though derived nouns.

3: ظروف میں وقت اور جگہ کا تصور ہوتا ہے مگر اس وقت جگہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم نہیں ہوتا۔

Adverbs have only the sense of place and time and no denotation of any action. e.g.

عَنْدَ (پاس) خَلْفَ (پیچے) أَمَامَ (سامنے) قَبْلَ (پہلے)

(Before)

(In front)

(Behind)

(Near)

4: ظروف اصل میں منصوب ہوتے ہیں۔

Zarf are in Haalate Nasab, , the accusative case

﴿قَدْ عِلِمَ كُلُّ أُنْاسٍ مَّشْرُبُهُمْ﴾ (النور: 60)

ہر قوم نے اپنا گھاٹ (پانی پینے کی جگہ) پہچان لیا۔

Each group knew its own place for water.

﴿وَمَنْ حَيْثُ كُحْجَتْ فَوَّلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (النور: 149)

اور تم جہاں سے نکلو، (نماز میں) اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو۔

So from wherever you go out [for prayer, O Muhammad] turn your face toward al- Masjid al-Haram

﴿فَحَمَلَتْهُ فَأَنْتَبَذْتِ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾ (مریم: 22)

پھر اس (بچہ کے ساتھ) حاملہ ہوئی پھر اسے لے کر کسی دور جگہ میں چلی گئی

So she conceived him, and she withdrew with him to a remote place..

﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنُهُمَا﴾ (الشua: 28)

فرمایا مشرق مغرب اور جوان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے

[Musa (Moses)] said: "Lord of the east and the west, and all that is between them.,